

PAKISTAN DOMESTIC  
SEASON 2019-20  
14 SEP - 24 APR

CRICKET  
CHAMPIONS  
Inspiring the Nation



## قائد اعظم ٹرافی سیکنڈ الیون ٹورنامنٹ کا پہلا راونڈ مکمل

لاہور، 16 ستمبر 2019ء:

سندھ اور بلوچستان کے درمیان میچ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ 175 رنز کے تعاقب میں سندھ کی ٹیم میچ کے اختتام تک 25 رنز ہی بنا سکی اور اس کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہ ہوا۔ احسن علی 17 اور جاہد علی 5 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے۔ اس سے قبل بلوچستان کی ٹیم نے 82 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ سے دن کا آغاز کیا تو 9 وکٹوں کے نقصان پر 227 رنز بنا کر اننگز ڈکلیئر کر دی۔ گلریز صدف نے ناقابل شکست 73 رنز بنائے۔ تیمور علی نے 56 رنز بنائے۔ سندھ کی جانب سے دانش عزیز نے 3 جبکہ جاہد علی اور حسن خان نے 2، 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں سنٹرل پنجاب اور سدرن پنجاب کے درمیان کھیلا گیا میچ ڈرا ہو گیا تاہم سدرن پنجاب کے میتھور اسپنر ذوالفقار بابر نے دوسری اننگز میں بھی 5 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ ذوالفقار بابر نے مجموعی طور پر 10 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ میچ کے آخری روز سدرن پنجاب کو جیت کے لیے 257 رنز درکار تھے تاہم وہ 6 وکٹوں کے نقصان پر 146 رنز ہی بنا سکی۔ کپتان نوید یاسین نے ذمہ دارانہ اننگز کھیلتے ہوئے 50 رنز اسکور کیے۔ ان کی اننگز میں 6 چوکے شامل تھے۔ اس سے قبل سنٹرل پنجاب کی پوری ٹیم دوسری اننگز میں 117 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ سنٹرل پنجاب کے 5 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے۔ سنٹرل پنجاب کی جانب سے احمد صفی عبداللہ نے میچ میں 9 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

کے آر ایل اسٹیڈیم راولپنڈی میں جاری ناردرن اور خیبر پختونخوا کی سیکنڈ الیون کرکٹ ٹیموں کے درمیان میچ بھی بغیر نتیجہ ختم ہو گیا۔ میچ کے آخری روز ناردرن کرکٹ ٹیم نے 17 رنز 2 کھلاڑی آؤٹ سے اپنی دوسری اننگز کا کیا اور دن کے اختتام پر 5 وکٹوں کے نقصان پر 156 رنز بنائے۔ حسن رضا نے 3 چوکے اور 1 چھکے کی مدد سے 75 رنز اسکور کیے جبکہ شہزاد اعظم 48 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ دونوں کھلاڑیوں کے درمیان 121 رنز کی شراکت قائم ہوئی۔

خیبر پختوانخوا کی جانب سے احمد جمال اور خالد عثمان نے 2، 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ خیبر پختوانخوا کے خالد عثمان اور ناردن کی جانب سے رضا حسن نے میچ میں 7،7 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔

– ENDS –

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)

M: +92 (0) 345 474 3486

W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)